



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو زادہ باران نہایت رحم کرنے والا ہے۔

یقیناً فلاح پائے وہ مومن ①

جو اپنی نسازی میں خشوی اختیار کرتے ہیں ②

اور وہ جو بے ہودہ باتوں سے منہ مورے رہتے ہیں ③

اور وہ جو زکوٰۃ کے طریقہ پر عامل میں ④

اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ⑤

سوائے اپنی بیویوں کے یا اُن (عورتوں) کے جو

ان کی بیکن میں ہوں کر دے

(ان سے مبادرت کرنے پر نہیں) ہیں قابل ملامت ⑥

پھر شخص چاہے اس کے علاوہ کچھ اور

سوائے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں ⑦

اور (فلاح پائے) وہ جو اپنی امانتوں کا

اوہ اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں ⑧

اور وہ لوگ بھی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ⑨

یہی لوگ ہیں میراث پانے والے ⑩

جو وارث ہوں گے فردوس کے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ①

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ②

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③

وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكْرَةٍ فَعَلُونَ ④

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ⑤

لَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَأْ

مَكْتُ آئِمَّا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ

غَيْرُ مَلُومِينَ ⑥

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ⑦

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِتَهُمْ

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ⑧

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ⑨

أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ⑩

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ۚ

وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے ⑪
 اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو
 مٹی کے جوہر سے ⑫
 پھر بنایا کہا ہم نے اس کو نطفہ
 ایک محفوظ جگہ درجہ مادہ میں ⑬
 پھر شکل دی ہم نے نطفہ کو خون کے لوہرے کی
 پھر بنایا ہم نے لوہرے کو بوئی پھر بنائیں ہم نے
 بوئی سے ہڈیاں پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت
 پھر بنایا کہا ہم نے اسے ایک دوسرا ہی مخلوق،
 سو ہڈا ہی بارکت ہے اللہ
 جو سب سے بہتر تخلیق فرمانے والا ہے ⑭
 پھر یقیناً تم کو اس کے بعد ضرور منا ہے ⑮
 پھر یقیناً تم قیامت کے دن اُٹھا کھڑے کیے جاؤ گے ⑯
 اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر
 سات راستے (آسمان)، اور نہیں ہیں ہم عمل تخلیق سے نا بد ⑰
 اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی ایک مخصوص مقدار میں
 پھر اسے ٹھہرایا ہم نے زمین میں
 اور یقیناً ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی پُوری طرح قادر ہیں ⑱
 پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے اس سے باغات

هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ⑲
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ
 مِنْ سُلَّةٍ مِّنْ طِينٍ ⑳
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً
 فِيْ قَرَارِ مَكَبِينَ ㉑
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا
 ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَهُ
 فَتَبَرَّكَ اللَّهُ
 أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ㉓
 ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ㉔
 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبَعَثُونَ ㉕
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ
 سَبْعَ طَرَائِقَ مِنْ وَمَا كُنَّا عِنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ㉖
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا كَانَ بِقَدْرِ
 فَاسْكَنْنَاهُ فِي الْأَرْضِ ㉗
 وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَدْ رُؤُونَ ㉘
 فَإِنَّشَانَا لَكُمْ بِهِ جَثَتِ

بکھوڑ کے اور انگور کے لگتے ہیں تمہارے لیے ان باغوں میں
پھل کثرت سے اور انہی میں سے تم کھاتے ہو ⑯
اور ایک درخت ہے جو نکلتا ہے طورِ سینا سے، الگتا ہے
تیل لیے ہوئے جو سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے ⑰
اور یقیناً تمہارے لیے ہے مریشیوں میں بھی ایک مقام غور و فکر۔
پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے
اور تمہارے لیے ان میں بست سے اور فائدے بھی ہیں
اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو ⑱
اور ان پر اور کشتوں پر تم سوار کیے جاتے ہو ⑲
اور بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف
سوکھا اس نے اے میری قوم! عبادت کرو اللہ کی،
نہیں ہے تمہارا کوئی مجبود اس کے سوا تو یہاں تھرے نہیں؟ ⑳
تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا نانے سے
اس کی قوم میں سے، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تم ہی جیسا
یہ چاہتا ہے کہ برتری حاصل کرے تم پر۔
اور اگر چاہتا اللہ (پیغمبر مجہنا) تو اُتا ترا فرشتوں کو (پیغمبر بتا کر)،
نہیں ہم نے ایسا (بشر کا پیغمبر ہونا)
لپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں بھی ⑳
بات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے

١٠ مِنْ نَخْيَلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا
فَوَإِكْهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّا كِلَيْنَ ۚ ۲
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةٌ
نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ ۳
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ
فَقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُ دُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۖ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ
فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
بِرِيدُ أَنْ يَنْفَضِلَ عَلَيْكُمْ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلِكَةً
مَا سَمِعْنَا بِهِذَا
فِي أَبَابِنَا الْأَوَّلِينَ ۴
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ

سو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت ⑯
 نوحؑ نے عرض کیا اے میرے رب! میری مد فرما
 وہی اعذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے چھٹا رہے ہیں ⑰
 پھر وحی بھیجی ہم نے اُس کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی
 ہماری نگرانی میں اور ہماری دھی کے مطابق پھر جب آجائے
 ہمارا عذاب اور اُبیل پڑے تنور تو بھائو اس میں
 ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اور اپنے گھروالوں کو بھی
 سوئے اُن کے جن کے بارے میں پلے فیصلہ ہو چکا ہے اُن میں سے
 اور کچھ نہ کتنا تم مجھ سے اُن لوگوں کے متعلق جو
 ظالم میں یقیناً وہ غرق ہو کر رہیں گے ⑱
 پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں
 کشتی پر تو کنا شکر اس اللہ کا جس نے
 نجات دی ہے اسیں ان لوگوں سے جو ظالم میں ⑲
 اور دعا کنا اے میرے مالک! اتنا ناجھ کو برکت والی جگہ
 اور تو ہی ہے بہترین جگہ دینے والا ⑳
 بے شک اس واقعہ میں بہت سی نشانیاں ہیں
 اور یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں ㉑
 پھر بیدا کیے ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ ㉒
 پھر بھجا ہم نے ان میں بھی ایک رسول انہی میں سے

فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حَيْنٍ ㉓
 قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي
 بِمَا كَذَّبُونِ ㉔
 فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ
 بِإِعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَ
 أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَوُّرُ، فَاسْلُكْ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكْ
 إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ
 وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ
 ظَلَمُوا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ㉕
 فِإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ
 عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ㉖
 وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبِيرًا
 وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ㉗
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ
 وَلَانْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ㉘
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَرَنَّا أَخْرِيَنَ ㉙
 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

(یہ پیغام دے کر) کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا
کوئی مبعود اس کے سوا۔ کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ ②

اوکہا ان سرداڑیں نے اس کی قوم میں سے
جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور جھیلایا آخرت کی پیشی کو
حالانکہ خوشحال عطا کی تھی، ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں
”نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم ہی جیسا“
کھاتا ہے وہی کچھ جو کھاتے ہو تو
اور پریتا ہے وہی کچھ جو پیتے ہو تو ③
اور اگر کمیں اطاعت کر لی تم نے ایک بشر کی جو تمہارے ہی جیسا ہے
تو یقیناً تم اندریں صورت ضرور گھانے میں پڑ جاؤ گے ④
کیا یہ کتنا ہے تم سے کہ جب مر جائے گے تم اور بن جائے گے مت
اور ہدیاں تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے (قبوں سے)؛ ⑤
نا ممکن ہے! بالکل ناممکن:
یسا ہونا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ⑥
نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی
اسی میں ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں
اور نہیں ہیں ہم ہرگز اٹھائے جانے والے ⑦
نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی جس نے گھڑا ہے اللہ پر
جھوٹ اور نہیں ہیں ہم کبھی اس کی بات مانے والے ⑧

آنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِهِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ
وَأَتَرْفَهُمْ فِي أَحْيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۝

يَا أَكُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَلَيَشَرُّبُ مِمَّا تَشَرُّبُونَ ۝

وَلَكُلُّنَا طَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ۝

أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا
وَعِظَامًا أَنَّكُمْ هُنَّ حُرْجُونَ ۝

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ
لِمَا تُوعَدُونَ ۝

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا
نَمُوتُ وَنَحْيَا

وَمَا نَحْنُ بِمَعْوِثَيْنَ ۝

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۚ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

اس نے عرض کیا لے میرے رب! میری مدد فرم
دہی (عذاب بخیج کر) جس پر یہ مجھے جھٹلا ہے میں ③

ارشاد ہوا! قریب ہے کہ مفروہ ہو کر میں گے یہ نادم ④

سو آیا انہیں ایک زبردست دھمکے نے وعدہ برحق کے طبق
تو بنادیا ہم نے انہیں خس و غاشک

سودُری بے رحمت سے ظالم لوگوں کے لیے ⑤

پھر پیدا کیں ہم نے ان کے بعد اور دوسرا قومیں ⑥

نہیں آگے بڑھ کتی کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے
اور زیستی پر بڑھ کتی ہے ⑦

پھر بھیجی ہم نے رسول اپنے، پے درپے۔ جب بھی آیا
کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے جھٹلایا اُ
سو بھیجتے چلے گئے ہم (ہلاک کر کے) ایک اُمت کو دوسرا کی پیچے
اور بنادیا ہم نے اُن کو افسانہ

سو بھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ⑧

پھر رسول ناکر بھیجا ہم نے موئی اور اس کے بھائی ہارون کو
انہی نشانیوں کے ساتھ اوکھی سند دے کر ⑨

فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف سو تکبیر کیا انہوں نے
اور وہ تھے ہی سرکشی کرنے والے لوگ ⑩

سو کہنے لگے کیا ہم ایمان لا میں ان دو آدمیوں پر

قالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي
بِمَا كَذَّبُونِ ⑪

قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُضْحِكَنَ نَدِيْرِينَ ⑫

فَاخْذَنَاهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ
فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءَ ⑬

فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ⑭

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخْرَيْنَ ⑮

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑯

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُنَزَّلُ كُلُّمَا جَاءَ
أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ
فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا
وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑰

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَآخَاهُ هُرُونَ ⑱

بِإِبْرِيْنَا وَسُلْطِينِ مُبِيْرِينَ ⑲

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ فَانْتَكَبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيْنَ ⑳

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ

جو ہمارے ہی بھی ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے؛ ④
 پس انہوں نے جھشلا دیا ان دونوں کو سو (آخر کار) ہو گئے وہ
 ہلاک ہونے والوں میں سے ⑤
 اور البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب
 تاکہ وہ لوگ بدایت پائیں ⑥
 اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو
 ایک نشانی اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اپنی جگہ پر
 جو ہنسنے کے قابل تھی اور جس میں اپنے بھر بھے تھے ⑦
 اور ملجم دیا ہم نے ہر دو میں اسے سفیرہ! کھاؤ پاک چینیں
 اور کرو نیک کام۔ یقیناً میں ان (اعمال) سے جو
 تم کرتے ہو خوب واقع ہوں ⑧
 اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے
 اور میں تمہارا رب ہوں سو مجھا ہی سے ڈرو ⑨
 مگر کریا لوگوں نے اپنے دین کو باہم مکڑے نکڑے۔
 ہرگز وہ اس پر جو ان کے پاس ہے مگن ہے ⑩
 سورہ بنے دو انہیں دُوبَا ہوا اپنی غفلت میں ایک دقت غاصب تک
 کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مددیے جا رہے ہیں ہم ان کو
 مال و اولاد سے ⑪
 گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلانیاں دینے میں؟

۴۱۷
 مِثْلِنَا وَفَوْهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ۴۱
 فَلَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا
 مِنَ الْمُهَدِّكِينَ ۴۲
 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
 كَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۴۳
 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ
 أَيَّهَةَ وَأَوْيَنُهُمَا إِلَى رَبِّوْةَ
 ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ۴۴
 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَأَعْمَلُوا صَالِحَاتِ ۖ إِنِّي بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمْ ۴۵
 وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ
 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ۴۶
 فَنَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِي حُوْنَ ۴۷
 فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ جِبِينَ ۴۸
 أَبَيْحَسِبُوْنَ أَنَّهَا يَمْدُدُهُمْ بِهِ
 مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ۴۹
 نُسَارُءُ لَهُمْ فِي أَخْبَرِتِ

ہرگز نہیں بلکہ، یہ سمجھتے نہیں ۴۶

حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے
لرزتے رہتے ہیں ۴۷

اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں ۴۸

اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو اشتریک نہیں ہٹھرتے ۴۹

اور وہ لوگ جو دیتے ہیں (اللہ کی راہ میں) جو کچھ بھی
دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل کا پنتے رہتے ہیں

اس خوف سے کریقیناً انہیں اپنے رب کی طرف کوٹ کر جانا ہے ۵۰

یہی میں وہ لوگ جو دوڑنے والے ہیں بھلائیوں کی طرف

اویسی ہیں جو بھلانی کو سب سے آگے بڑھ کر پالنے والے ہیں ۵۱

اور نہیں ذمہ داری کا بوجھ ذاتے ہم کسی جان پر گر

اس کی طاقت کے مطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے
جبیان کلتی ہے (ہر ایک کا حال) بالکل علمیک ٹھیک

اور لوگوں پر بہر حال ظلم نہیں کیا جائے گا ۵۲

مگر ان کے دل غافل ہیں اس (بات) سے اور ان کے پاس

اور بست سے کام میں اس کے علاوہ وجودہ کر رہے ہیں ۵۳

یہاں تک کہ جب ہم بتلا کریں گے ان کے خوشحال لوگوں کو

عذاب میں تو وہ ببلہا نہیں گے ۵۴

(کہا جائے گا) امت چلا آج۔ یقیناً تم کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتے ۵۵

بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۵۶

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِبَةِ رَبِّهِمْ

مُشْفِقُونَ ۵۷

وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۵۸

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۵۹

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا

أَنَّوْا وَقَوْبَاهُمْ وَجِلَةٌ

أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۶۰

أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

وَهُمْ لَهَا سِيقُونَ ۶۱

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا وَلَدَنِنَا كِتَبٌ

يَنْطِقُ بِالْحَقِّ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۶۲

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ

آعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذِلِكَ هُمْ لَهَا عِمِلُونَ ۶۳

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُنْتَرَفِيهِمْ

بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ۶۴

لَا تَجْرُوا إِلَيْهِمْ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُنْتَنَصِرُونَ ۶۵

لَقِيْنَا مِيرِی آیاٰت پڑھ کر نافی جاتی تھیں تمیں
وَتَمَّ اُلَّاٰ پاڑ بھاگ بخخت تھے ④٤

لپنے گھمنہ میں بتلا رہتے ہوئے،

اس پر بھبھیاں کتے ہوئے بے ہودہ بکواس کرتے تھے ④۵

کیا پھر کبھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر؟

یا آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو

نہیں آئی تھی ان کے پسلے آباؤ اجداد کے پاس؟ ④۶

یا نہیں پہچانتے ہیں یہ اپنے رسول کو

اس لیے یہ اس سے بد کتے ہیں؟ ④۷

یا یہ کتنے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے؟ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ
آیا ہے وہ ان کے پاس حق لے کر اوزان کی اکثریت
حق کو ناپسند کرتی ہے ④۸

حالانکہ اگر پیردی کرنے لگے حق ان کی خواہشاتِ نفس کی

توفاد برپا ہو جائے آسمانوں میں اور زمین میں

اور اُن میں جو اُن کے درمیان ہیں، نہیں بلکہ

لائے ہیں ہم اُن کے پاس اُن کے لیے نصیحت اور وہ

اپنی ہی نصیحت سے مُمنہ موڑے ہوئے ہیں ④۹

کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاف صدر

تمہارے رب کا کمیں بہتر ہے اور وہ

قَدْ كَانَتْ أَيْتِنِي تُنْتَلِي عَلَيْنِكُمْ

فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ④٩

مُسْتَكِبِرِينَ ۝

بِهِ سِرَّاً تَهْجُرُونَ ⑤٠

أَفَلَمْ يَدَبَرُوا الْقَوْلَ

أَهْ جَاءَهُمْ مَا

لَمْ يَأْتِ أَبَاءُهُمُ الْأَوَّلِينَ ⑤١

أَمْ لَهُ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ⑤٢

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ بَلْ

جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ

لِلْحَقِّ كِدْهُونَ ⑤٣

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَأَهُمْ

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ

وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ

أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ

عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ⑤٤

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجٌ

رَبِّكَ حَبٌِّ وَهُوَ

سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ④
 اور واقع یہ ہے کہ تم تو بلا تے ہواں کو
 سیدھے راستے کی طرف ④
 اور بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر
 سیدھے راستے سے ہٹ کر چلا پاہتے ہیں ④
 اور اگر رحم کریں ہم ان پر اور دُور کر دیں ان کی تحریک
 تو ضرور اصرار کریں وہ اپنی سرکشی پر اور بھٹکتے پھریں ④
 اور یقیناً ہم نے بتلا کیا ہے ان کو عذاب میں
 یکن نہ مجھکے یہ اپنے رب کے حضور
 اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی ④
 یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ
 سخت ترین عذاب کا تو یکایک وہ
 اس حالت میں مالوس ہو کر بیٹھ جائیں گے ④
 اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے کان،
 آنکھیں اور دل و دماغ۔
 مگر کم ہی تم شکر گزار ہوتے ہو ④
 اور وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں
 اور اسی کی طرف تم سیٹے جاؤ گے ④
 اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے

خَيْرُ الرِّزْقِينَ ④
 وَإِنَّكَ لَنَتَدْعُهُمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ④
 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
 عَنِ الصِّرَاطِ نَذَرِبُونَ ④
 وَلَوْرَحْمَنُمْ وَكَشْفُنَا مَا بِهِمْ قَنْ ضُرِّ
 لَلَّجُوْا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ④
 وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ بِالْعَذَابِ
 فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
 وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ④
 حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا
 ذَا عَدَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ
 فِيهِ مُبْلِسُونَ ④
 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْيَادَةَ
 قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ④
 وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ④
 وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمْبِتُ

اور اُسی کے ہاتھ میں ہے بدلنا رات اور دن کا۔
کیا تم سمجھتے نہیں؟ ⑥

مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی بات جو کہی تھی پہلوں نے ⑦
کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی
اور ہڈیاں تو کیا واقعی ہم پھر عبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ⑧
یقیناً حکل دی گئی تھی ہمیں بھی اور ہمارے آباو اجداد کو بھی
اسی بات کی اس سے پہلے بھی نہیں ہیں یہ باتیں مگر
کہانیاں پہلے لوگوں کی ⑨

ان سے پوچھو کس کی ہے یہ زمین اور جو بتے ہیں
اس میں اگر تم جانتے ہو؟ ⑩

تو وہ ضرور کہیں گے اللہ کو پھر تم سچے کیوں نہیں؟ ⑪
ان سے پوچھو کون ہے مالک سات آسمانوں کا
اور مالک ہے عرشِ عظیم کا؟ ⑫

وہ ضرور کہیں گے اللہ کو پھر تم کیوں نہیں دستے؟ ⑬
اُن سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے اقتدار
ہر چیز کا اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی پناہ نہیں مسے سکت
اس کے مقابلے میں اگر تم جانتے ہو؟ ⑭

وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کو پھر کہاں سے حکم کہا ہے ہوتا؟ ⑮
اصل بات یہ ہے کہ لائے ہیں ہم اُن کے سامنے حق

وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ①

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ②

قَالُوا إِنَّا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا
وَعَظَامًا إِلَّا نَأْتَاهُمْ بِمَعْوِنُونَ ③

لَفَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَإِبَاؤُنَا
هُذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ④

فُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑥

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑦

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ⑧

قُلْ مَنْ بَيْدِهِ مَلَكُوتُ
كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑯

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَآتَنِي شَحْرُونَ ⑯

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ

اور یقیناً یہ سخت بھوئے ہیں ④

نہیں بنایا اللہ نے کسی کو بیٹا اور نہیں ہے اس کے ساتھ
کوئی دوسرا معمود اگر اس ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معمود
اپنی مخلوق کو اور وہ چڑھ دو رتے

ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ

ان بالوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں (اس کے باشے میں) ⑤

وہ توجانے والے ہر چھپے اور گھنے کا اور وہ بندے والا ہے
ان سب چیزوں سے جنہیں یہ (اس کا) شرکی ٹھہراتے ہیں ⑥

(اے نبی) دعا کرو اے میرے مالک! اگر تو دکھائے مجھے
وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ⑦

تو اے میرے مالک! نہ کبھی مجھے شامل ان ظالم لوگوں میں ⑧

اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم تم کو وہ عذاب جس کی
ہم انہیں دھکی دے سے ہیں — پوری طرح قادر ہیں ⑨

اے نبی! جواب دو بُرانی کا اُس طریقے سے جو ہو بہترین۔

ہم خوب جانتے ہیں ان بالوں کو جو یہ بنارہ ہیں ⑩

اور دعا کرو اے میرے مالک! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں
شیطانوں کی اکساہوں سے ⑪

اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے مالک!

اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں (بوقتِ موت) ⑫

وَإِنَّهُمْ لَكَذِّبُونَ ⑬

مَا أَتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ

مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّلَّ ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ

بِمَا حَلَقَ وَلَعَلَّا

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُجَّنَ اللَّهُ

عَمَّا يَصْفُونَ ⑭

عَلِيهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ فَتَعْلَمُ

عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑮

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا ثَرِبَتِي

مَا يُوعَدُونَ ⑯

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑰

وَلَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا

نَعْدُهُمْ لَقَدْرُونَ ⑱

إِذْفَعْ بِإِلَيْنِي هَيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ هُ

لَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ ⑲

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ

مِنْ هَمْزَتِ الشَّيْطَنِينَ ⑳

وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ

أَنْ يَخْضُرُونَ ㉑

دی لوگ باز نہ آئیں گے) یہاں تک کہ جب آن کھڑی ہو گی
ان میں سے کسی کے سراپا مرٹ تو کے گا
اے میرے مالک! مجھے واپس بھیج دے ⑩
ایدھے کریں کروں گا نیک عمل اپنی چھوڑی ہوئی دُنیا میں
ہرگز نہیں مایہ تو بس ایک بات ہے جو
وہ کہہ رہا ہے۔ اب تو ان کے پیچے
برخ ہے اُس دن تک کہ سب دوبارہ اُنھائے جائیں گے ⑪
پھر جب چھوٹ کا جائے گا صورت ورنہ باقی رہیں گے رشتے ناتے
اُن کے درمیان اُس دن اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ⑫
سوچن کے بھاری ہوں گے پڑے
سوہی فلاج پائیں گے ⑬
ادھن کے بلکہ ہوں گے پڑے سوہی ہیں
جنوں نے گھائی میں ڈال دیا لپنے آپ کو
ادھن میں یہ ہمیشہ رہیں گے ⑭
جھلس دے گی اُن کے چرول کو آگ
اور وہ اس میں انتہائی بُشکل ہوں گے ⑮
اُن سے کہا جائے گا) کیا ایسا نہیں تھا کہ میری لایات پڑھی جاتی تھیں
تمارے سامنے اور تم اُنہیں جھٹلایا کرتے تھے ⑯
وہ عرض کریں گے اے ہمارے مالک! چھاگنی تھی

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَحَدًا هُمُ الْمَوْتُ قَالَ
رَبِّ ارْجِعُونِ ①
لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ
هُوَ قَاتِلُهَا وَمَنْ وَرَآ إِبَاهَمْ
بَرَزَخٌ مَّا لِيَوْمٍ يُبَعَثُونَ ②
فَإِذَا نُفِيتَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِدٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ③
فَمَنْ شَفَلتَ مَوَازِينُهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِّحُونَ ④
وَمَنْ خَفَتَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فِي جَهَنَّمَ خَلْدُونَ ⑤
تَلَفُّهُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ
وَهُمْ فِيهَا كُلُّهُونَ ⑥
كَلَّا إِنَّمَا يُنَزَّلُ
عَلَيْكُمْ فَلَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑦
فَالْأُولُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ

ہم پر ہماری بُخْتی اور تھے ہم گراہ لوگ ⑩

اے ہمارے رب! نکال دے تو ہمیں

یہاں سے چھڑا ہم دوبارہ ایسا کریں

تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے ⑪

ارشاد ہوگا دُور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پڑے رہو

اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو ⑫

مُورِّتِ حال یہ ہے کہ تھا ایک گردہ

میرے بندوں میں سے جو دعا منگا کرتا تھا کہ

"اے ہمارے مالک! ہم ایمان لائے

سُب خوش دے تو ہمیں اور ہم پر رحم فرمًا

اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرماتے والا ہے" ⑬

تو اُذایا کرتے تھے تم ان کا مذاق

یہاں تک کہ غافل ہو گئے تم (ان کی صد میں)

میری یاد سے اور تم ان کی بنی اُذاتے رہے ⑭

بے شک میں بدلہ دے رہا ہوں اُتھیں

آج ان کے صبر کا

اور یقیناً وہی ہیں کامیاب ⑮

ارشاد ہوگا کتنی مدت ہے تم

زمیں میں سالوں کے حباب سے؟ ⑯

عَلَيْنَا شُفَوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ⑰

رَبَّنَا أَخْرَجْنَا

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا

فَإِنَّا ظَلَمُونَ ⑯

قَالَ أَخْسُوا

فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ⑰

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ

مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ

رَبَّنَا أَصَنَّا

فَأَغْفِرْنَا وَارْحَمْنَا

وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّحِيمِينَ ⑱

فَإِنَّهُ خَذَ تُمُوهُمْ سُخْرِيَّاً

حَتَّى أَنْسَوْكُمْ

ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَعَّكُونَ ⑲

إِنِّي جَرِيْتُهُمْ

الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاهِزُونَ ⑳

قَلَ كَمْ لَيْثِنْتُمْ

فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِّينَ ㉑

وہ کہیں گے ہے ہم ایک دن یادن کا کچھ حصہ،
پوچھ لیجیے شمار کرنے والوں سے ⑪
ارشاد ہو گا، نہیں رہے تھے تم مگر تھوڑی دیر
کاش! تم جانتے اس حقیقت کو ⑫
کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تم نے جو پیدا کیا ہے تم کو
یہ بے مقصد تھا اور یہ کہ تم
ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ⑬
سو بالا در بر تر ہے اللہ بادشاہِ حقیقی،
نہیں ہے کوئی مبعود سوائے اس کے
جو مالک ہے عرشِ کریم کا ⑭
اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ
کسی دوسرے مبعود کو، نہیں ہے کوئی دلیل
اس کے پاس اس بات کی تو یقیناً
اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہو گا۔
واقعہ یہ ہے کہ کبھی نہیں فلاح پاتے
ایسے کافر ⑮
اور اے بنی دُعَارُو اے میرے مالک!
بخش دے اور رحم فرم ا اور تو ہے
سب سے بہتر رحم فرمانے والا ⑯

قَالُوا إِيَّنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
فَسَأِلُ الْعَادِيْنَ ⑰
فَلَإِنْ لَيَشْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا
لَوْا نَكْمُ كُنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑱
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ
عَبْنَاتًا وَأَنَّكُمْ
إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ⑲
فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
لَا إِلَهَ لَا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ ⑳
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا أَخْرَى لَا يُرْهَانَ
لَهُ بِهِ فِي أَنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكُفَّارُونَ ㉑
وَقُلْ رَبِّ
أَغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّحِمِينَ ㉒



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے

یہ ایک اہم سورت ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے

❖ سُورَةُ آنْزَلْنَا

وَفَرَضْنَا وَأَنْزَلْنَا

فِيهَا آيَتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلِدُوا

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً صَ

وَلَا تَأْخُذُ كُلَّهُمَا رَافِةً

فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

إِلَّا اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ وَلَيَشَهَدْ

عَذَابَهُمَا طَالِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

الرَّازِيُّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

وَالرَّازِيَةُ لَا يَنْكِحُهُمَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَ

وَحِرْمَةً ذِلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبِلُوا

اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے ہم نے اور نازل کیے ہیں ہم نے
اس میں واضح احکام تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ①

زانی عورت اور زانی مرد، کوڑے مارو

ہر ایک کو ان دونوں میں سے، سوسو کوڑے
اور زندامن گیر، ہوتم کو ان کے سلسلہ میں ترس کھانے کا جذبہ

اللہ کے دین کے معاملے میں اگر رکھتے ہو تو تم ایمان

اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور چاہیے کہ مشاہدہ کے

ان کی سزا کا ایک گروہ مومنوں کا ②

زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرک سے

اور زانیہ سے نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک۔

اور حرام کر دیا گیا ہے ان سے نکاح کرنا اہل ایمان پر ③

اور وہ لوگ جو تمہت لگائیں پاکدامن عورتوں پر

چھر نلاسکیں وہ چار گواہ

تو کوڑے مارو اُنہیں استی کوڑے اور نہ قبول کرو

ان کی گواہی کبھی بھی -
 اور یہی لوگ میں فاسق ②
 مگر وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد
 اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ ہے
 معاف فرمائے والا ، رحم کرنے والا ⑤
 اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو
 ان کے پاس گواہ سوائے اپنی ذات کے تو گواہی
 ان میں سے ہر ایک کی (یہ ہے) کہ چار مرتبہ شہادت دے
 اللہ کی قسم کھا کر کبے شک وہ (اپنے الزام میں) سچا ہے ⑥
 اور پانچوں بار کے کہ لعنت اللہ کی اس پر
 اگر ہو وہ جھوٹا ⑦
 اور میل جائے گی اس عورت سے سزا
 اس طرح کہ گواہی دے وہ چار شہادتیں اللہ کی قسم کھا کر
 کبے شک وہ جھوٹا ہے ⑧
 اور پانچوں بار کے کہ اللہ کا غضب ہوا س عورت پر
 اگر ہو وہ مرد سچا ⑨
 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر
 اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا
 اور حکمت والا (تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے) ⑩

لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا :
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيْقُونَ ③
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 وَاصْدَحُوا : فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ④
 وَالَّذِينَ يُرْمُونَ أَزْوَاجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ
 لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ
 بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لِمَنَ الصَّدِيقِينَ ⑤
 وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيْبِينَ ⑥
 وَيَدْرُؤُهَا عَنْهَا الْعَذَابَ
 أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لِمَنَ الْكَذِيْبِينَ ⑦
 وَالخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ⑧
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ
 حَكِيْمٌ ⑨

بلاشبہ وہ لوگ جو گھر کلاتے ہیں بہتان، ایک جھاہیں
 تم میں سے مت سمجھوتم اس ولقے کو شراپنے لیے
 بلکہ وہ خیر ہے تمہارے یے۔ ہر ایک شخص کے لیے ہے
 ان میں سے اتنی لامزاج، جتنا کیا اُس نے گناہ
 اور وہ جس نے ذمہ داری الٹھائی تھت کے بڑے حصے کی
 اُن میں سے، اس کے لیے ہے عذاب عظیم ⑪
 کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب سنانہاتم نے اس الزام کو
 تو گان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ ہی
 نیک گان اور کتے یہ تو ہے بہتان، کھلدا ⑫
 کیوں نہ لائے یہ اس الزام پر چار گواہ۔
 پھر جبکہ نہیں لاسکے وہ گواہ تو یہ لوگ
 اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ٹھہرے ⑬
 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت
 دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترآلیتا تم کو
 اس (الزام) کی وجہ سے جو پھیلا ہے تھے تم
 کوئی بڑا عذاب ⑭

جب تم اسے لے رہے تھے ایک درس سے اپنی زبانوں پر
 اور کہہ رہے تھے اپنے منسوب سے ایسی بات کرنیں تھا
 تمہیں اس کے باسے میں کوئی علم اور سمجھ رہے تھے تم اسے

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوكُمْ بِالْأُفْكِ عَصَبَةٌ
 مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرَّاً لَّكُمْ
 بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أُمْرٍ
 مِنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ
 وَالَّذِي تَوَلَّ يَكْبُرُهُ
 مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑮
 لَوْلَا رَأَذْ سَمْغَنْمُونَ
 ظَرَقَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ
 خَيْرًا، وَقَالُوا هَذَا آفَكٌ مُّبِينٌ ⑯
 لَوْلَا جَاءُوكُمْ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ
 فَإِذَا لَمْ يَأْتُوكُمْ بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
 عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الظَّمِينُ ⑰
 وَلَوْلَا فَضَلْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمْ سَكَمْ
 فِي مَا أَفَضَّلُمْ فِيهِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑲
 إِذَا نَلَقُوكُمْ بِالْإِنْتِكُمْ
 وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ

ایک معمولی بات، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی حقیقتی ⑯
 اور کیوں نہ جب تم نے مُسنا اُسے تو کہا
 نہیں زیر ب دیتا ہیں یہ کہ کہیں ہم ایسی بات،
 سُبْحَانَ اللَّهِ يَا تُو ایک بہتان غلطیم ہے ⑰
 نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کرنا (نہ) دہرانا تم ایسی کوئی حرکت
 کبھی بھی اگر ہوتا ہو مون ⑱
 اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام۔
 اور اللہ علیم و حکیم ہے ⑲
 بے شک وہ لوگ جو پاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی
 ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے
 دروناک عذاب دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
 اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ⑳
 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت
 اور یہ بات کہ اللہ بہت شفیق اور سریان ہے (تو تم تباہ ہو جاتے) ㉑
 اور جو پیر دی کرے گا شیطان کے نقش قدم پر۔
 تو پھر وہ تو صفر حکم سے گا بے حیائی کا اور بُرے کاموں کا۔
 اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت،
 تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی

هِيَنَا ۚ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ⑯
 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ
 مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تَنْكَلِمَ بِهِذَا ۚ
 سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ⑰
 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ
 أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑱
 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ كُمُ الْأَبْيَتُ ۖ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑲

إِنَّ الَّذِينَ يُجْنِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاجِحَةَ
 فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ
 عَذَابَ الْيَمِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑳
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
 وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ㉑
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَتَبَعُوا خُطُوطَ الشَّيْطِينِ
 وَمَنْ يَتَبَعُ خُطُوطَ الشَّيْطِينِ
 فَإِنَّهُ بِأَمْرِ رِبِّ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
 مَا زَكَّى مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۖ

مگر اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے۔

اور اللہ سميع و علیم ہے ②۱

اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحبِ فضل ہیں تم میں سے
اور (صاحبِ حیثیت بھی کہا) دیں گے وہ قرباتِ داروں کو

اوہ مسکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو
اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں

اور درگز رسم کام لیں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم
یہ بات کہ معاف کرے اللہ تمیں؟ اور اللہ ہے
معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ②۲

بے شک وہ لوگ جو تمہت لگاتے ہیں پاک و امن،
بے خبرہ مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ان پر

ذینما میں بھی اور آخرت میں بھی

اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم ②۳

اُس دن جب گواہی دیں گی ان کے خلاف
خود ان کی زبانیں اور ان کے باتحہ اور ان کے پاؤں
ان کرتوں، کی جو وہ کرتے رہے ②۴

اُس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ بلہ ان کا جس کے وہ سمجھیں
اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی ہے
حق کو پس کر دکھانے والا ②۵

وَلَكِنَ اللَّهُ يُرِيْكَ مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ②۶

وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
وَالسَّعَةُ آنِ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى

وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَجِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا

وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تَحْبُّونَ
آنِ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ②۷

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَفِيلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعْنُوا

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ②۸

يَوْمَ تُشَهَّدُ عَلَيْهِمْ
آسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②۹

يَوْمَ إِذْ يُوَقِّيْهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ

الْحَقُّ الْمُبِينُ ②۱۰

غبیث عورتیں ہیں غبیث مردوں کے لیے
اور غبیث مرد غبیث عورتوں کے لیے،
اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے،
اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے،
یہ لوگ پاک ہیں ان ماتلوں سے جو بناتے ہیں یہ (فسد)۔

ان کے لیے ہے بخشش اور رزقِ کریم ④

اے ایمان والو! نہ داخل ہو گھروں میں

سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو

اور سلام (نہ) کرو گھروں کو۔ یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے
تھوڑے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے ⑤

چھر اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں

جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو اور اگر کہا جائے

تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ یہ طریقہ نیادہ پاکیزہ ہے

تمہارے لیے۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے پُردی طرح واقع ہے ⑥

نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو تم

ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہنا نہ ہو، جن میں سامان یا فائدہ ہو

تمہارا اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو

اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو ⑦

کو مومن مردوں سے کہنچی کھیں اپنی نظریں

الْخَيْبِثُ لِلْخَيْبِثِينَ

وَالْخَيْبِثُونَ لِلْخَيْبِثِ

وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ

وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ ۖ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۖ ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَذَرُوا بُيُوتًا

غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا

وَتُسَلِّمُوا عَلَى آهُدِهَا، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَرَّكُرُونَ ۷

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَذَرُوهَا

حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وَإِنْ قِيلَ

لَكُمْ أُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَذْكَرٌ

لَكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۸

لَبِسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَذَرُوهَا

بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ

لَكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدِونَ

وَمَا تُكْنِتُونَ ۹

فَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

اور حفاظت کریں اپنی شرمگا ہوں کی، یہ طریقہ نیادہ پاکیزہ ہے
ان کے لیے۔ بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے
ان (باتوں) سے جزو کرتے ہیں ②

اور کوئی مون عورتوں سے کہ شچی رکھیں اپنی نظریں
اور حفاظت کریں اپنی شرمگا ہوں کی اور نہ ظاہر کریں
اپنا بنا دسکار مگر جو خود ظاہر ہو جائے
اور مارے رکھیں میکل اپنی اور صینوں کے اپنے سینوں پر
اور نہ ظاہر کریں اپنا بنا دسکار مگر سامنے اپنے شوہروں کے
یا اپنے باپوں کے یا شوہروں کے باپوں کے
یا بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے
یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے
یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے سامنے جو
ان کی ملکت میں میں ہوں یا ان خادموں کے (سامنے جنہیں
خواہش نہ ہوں (عورتوں کی) خواہ مرد ہی کیوں نہ ہوں
یا ان پتوں کے (سامنے) جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں
عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے۔

اور نہ مار کر چلیں (زمین پر) اپنے پاؤں اس طرح کہ ظاہر ہو
وہ زینت جوانہوں نے چھپا کر ہے۔

اور تو بکر واللہ کے حضور سب مل کر اے مومنوں!

وَبَيْحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ آذُنَ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ③

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَبَيْحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلِنَّ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلَيَضُرُّنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُبُوْرِهِنَّ
وَلَا يُبَدِّلِنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعْوَلِتِهِنَّ
أَوْ أَبَاءِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعْوَلِتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلِتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَّ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِيَّ أَخَوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِعِينَ
غَيْرِ أُولَئِكَ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمْ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَبْيَهُ الْمُؤْمِنُونَ

تک تم فلاح پا جاؤ ④

اور نکاح کر دیا کرو (ان مردوں اور عورتوں کا) جو بخوبی تم میں سے
اوپنے ان خلاموں اور لذیبوں کا جو صلاحیت رکھتے ہوں۔

اگر ہوں گے یہ مغلس تو غنی کرو گا ان کو اللہ اپنے فضل سے۔

اور اللہ ہے بڑی وحیتوں کا مالک، سب کچھ جانتے والا ⑤

اور چاہیے کہ پاکدامن میں وہ لوگ جو نہیں قادر رکھتے تھے کل کی
حتیٰ کرفتی کروے اسیں اللہ اپنے فضل سے۔

اور وہ جو خواہش رکھتے ہیں ممکاتبت (معاہدہ آزادی) کی
تمہارے خلام اور لذیبوں میں سے تو ان سے ممکاتبت کرو،
اگر پاکدامن میں بھلانی۔ اور وہ تم انہیں
اللہ کے مال میں سے جو اُس نے تمیں دیا ہے۔

اور نہ مجبور کرو تم اپنی لذیبوں کو بدکاری پر۔ جبکہ
چاہتی ہوں وہ پاکدامن رہنا۔ اس غرض سے کہ مال کو تم
دنیاوی زندگی کا فائدہ اور جو کوئی اُجھیں مجبور کرے گا
تو بے شک اللہ اس بنا پر کہ وہ مجبور کی گئی ہیں

معاف فرمائے والا اور رحم فرمائے والا ہے ⑥

اور یقیناً نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسے احکام
جو واضح ہیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزرنچے ہیں
تم سے پہلے اور نصیحتیں، تھیوں کے یہے ⑦

لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ⑧

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ

وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَ إِيمَكُمْ ۖ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ بِعُزْلَةٍ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ⑨

وَلَا يَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ زَكَاةً

حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوْهُمْ

إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنُوْهُمْ

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُكُمْ

وَلَا تُكَرِّهُوْا فَتَبَيَّنُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

أَرْدَنَ تَحْضَنَا لِتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكِرِّهُنَّ

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑩

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْتِ

مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا

مِنْ قَبْدِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ⑪

اللہ نے بے آسمانوں کا اور زمین کا مثال

اس کے ندک ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں سکھا ہو چلغ۔

یہ چلغ ایک فانوس میں ہو اور یہ فانوس ایسا ہو جیسے

ایک ستارہ موئی کی طرح چمکتا ہو جو روشن کیا جاتا ہو

زیتون کے مبارک درخت کے تسلیم سے جونہ شریٰ ہے

اور نہ غربی قریب ہے کہ اس کا تسلیم بھڑک اُٹھے

خواہ نہ چھوئے اُسے آگ۔ روشنی پر روشنی۔

رہنمائی عطا فرماتا ہے اللہ اپنے نور کی جسے چاہے۔

اوہ سیان کرتا ہے اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے۔

اوہ اللہ ہر چیز کو حُب بجاتا ہے ⑤

(یہ طاق) ان گھروں میں ہیں جن کے تعلق حکم دیا ہے اللہ نے

کہ بلند کیا جائے یعنی تعظیم کی جائے اُن کی اور یہا جائے اُن میں اُس کا نام

تبیع کرتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح و شام ⑥

یہے لوگ جنہیں نہیں غافل کرتی سو ماگری

اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نہ اذاق اُن کرنے سے

اور نہ کوئہ ادا کرنے سے، ڈستے رہتے ہیں وہ

اُس دن سے جس میں الٹ جائیں گے

مل اور اپھرا جائیں گی) آنکھیں ⑦

وہ یہ سب کچھاں لیے کرہے ہیں اتا کہ جزویے اُنہیں اللہ

اللہ نور السموات والارض ممثل

نورہ کیمشکوتہ فیہا مصباح

المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کاتھا

گوکب دُرْتی یوقد

مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَرَّكَةٍ رَّيْتُونَتِی لَا شَرْقِیَةٌ

وَلَا غَرْبِیَةٌ تَکَادُ رَيْتُھَا يُضْنَیُ

وَلَوْلَهُ تَمَسَّهُ نَارٌ نُورٌ عَلَیْ نُورٍ

بَهْدِی اللہ لِنُورِہ مَنْ بَشَاءَ

وَبَصَرِبُ اللہ الامثال لِلثَّالِسَ

وَاللہ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ⑧

فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللہ

أَنْ تُرْفَعَ وَمُذْكَرٌ فِیہَا اسْمُهُ

بِسْمِ اللہ فِیہَا بِالْغُدُو وَالاَصَالِ ⑨

بِرَجَالٍ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةً

وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَابِنَاءِ الزَّكُورِ بِخَافُونَ

بِوْمًا تَنَقَّلُ فِیہِ

الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ⑩

لِیَجِزِیْهُمُ اللہ

بہتر سے جو عمل کیے انہوں نے اور زیادہ نوازے انہیں
لپٹے فضل سے۔ اور اللہ رزق دیتا ہے
جسے چاہے بے حساب ④
اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال
کی مثال سراب محرکی سی ہے جسے سمجھتا ہے پیاسا پانی۔
یہاں تک کہ جب آتا ہے وہ اُس کے پاس تو نہیں پاتا اُسے
کچھ بھی اور موجود پاتا ہے اللہ کو وہاں جو پیدا پڑا چکا دیتا ہے اس کو
حساب اُس کا اور اللہ جلد حساب چکلنے والا ہے ⑤
یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے تایکیاں ہوں ایک گھرے ہند میں
چھائی ہٹوٹی ہواں پر ایک موج اُس کے اوپر ایک اور موج ہو
اور اس کے اوپر بادل ہوں گیا کہ تایکیاں میں
ایک دوسرے پر (چھائی ہٹوٹیں) جب نکالے کوئی
اپنا ہاتھ تو نہ دیکھ پائے اُسے اور وہ شخص کہ نہ سمجھے
اللہ اس کو روشنی تو نہیں پائے گا وہ رکھیں ہیں اور روشنی ⑥
کیا نہیں رکھتے تم کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو ہیں
آسمانوں میں اور نہیں میں اور وہ پرندے بھی
جو پر پھیلاتے اُڑ رہے ہیں؛ ہر ایک نے جان یا ہے
طریقہ اپنی نماز اور تسبیح کا اور اللہ خوب جانتا ہے
اس کو جو یہ سب کرتے ہیں ⑦

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ
مِّنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑧
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ بِيَحْسِبُهُ الظَّهَانُ مَا إِلَّا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَهُ يَجْدُهُ
شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْفَهُ
حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ⑨
أَوْ كُظُمْتِ فِي بَحْرِ لِجْيٍ
يَغْشِيهُ مَوْجٌ مِّنْ فَقِيقَهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقَهُ سَحَابٌ وَظُلْمَتْ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُ لَمْ يَلْكُدْ بَرِّهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ⑩
أَلَّا هُنَّ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّئُ لَهُ مَنْ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ
صَافِتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَانَةٌ وَتَسْبِيحةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ ⑪

اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسماؤں کی اور زمین کی۔
 اور اللہ ہی کی طرف سب کو پہنچا ہے ④
 کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو
 پھر جوڑ دیتا ہے انہیں باہم پھر اکٹھا کر دیتا ہے انہیں تدبیر
 پھر تم دیکھتے ہو کبارش کے قطرے پکتے میں
 اس کے اندر سے۔ اور برساتا ہے آسمان سے
 ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں (بلند) میں اولے۔
 اور بینچا تا ہے (نقسان) اُس سے جسے چاہے
 اور بہادری تا ہے انہیں جس سے چاہے ایسا لگتا ہے کہ
 بھل کی چمک آنکھوں کو اچک لے جائے گی ⑤
 اُس پیٹ کر لاتا ہے اللہ رات کو اور دن کو۔
 بے شک اس میں ایک بیت ہے آنکھوں والوں کے لیے ⑥
 اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے
 سوان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں پس پیٹ کے بل
 اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں دو نانگوں پر،
 اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں پارٹا نگوں پر۔
 پیدا فرماتا ہے اللہ جو پاہتا ہے۔ بے شک اللہ
 ہر چیز پر پُردی طرح قادر ہے ⑦
 بلاشبہ نازل کیے ہیں ہم نے ایسے احکام جو واضح ہیں۔

وَإِلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَإِلَهُ الْمَصِيرُ ⑧
 أَلَمْ تَرَ أَقَالَةَ يُنْزِجُ سَحَابًا
 ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا
 فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ
 مِنْ خَلْلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
 مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ
 فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
 وَيَصِرِّفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ بِكَادُ
 سَنَا بَرْقَهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ⑨
 يُقْلِبُ اللَّهُ الْيَوْلَ وَالنَّهَارَ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَا وِلِيَ الْأَبْصَارِ ⑩
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ
 فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ
 يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑪
 لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَتِ مُبَيِّنَاتٍ

او اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے پاہے

صراطِ مستقیم کی طرف ④

اور کتنے ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر

اور ہم نے اطاعت قبول کر لی پھر بھی مُنْه موزجا تا ہے ایک گروہ

ان میں سے اس کے بعد اور نہیں ہیں

ایسے لوگ دل حقیقت مون ⑤

اور جب بلا یا جاتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف

تک دوہ فیصلہ کرے اُن کے مقدمات کا تو ایک گروہ

ان میں سے پسلوتو ہی کرتا ہے ⑥

او ماگر م رہا ہو حق ان کو تو چہ آتے ہیں

اس کی طرف اطاعت شعرا بن کر ⑦

کیا اُن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟

یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا اُن کو یہ خوف ہے؟

کہ ظلم کرے گا اللہ اُن پر اور اس کا رسول بھی۔

امل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں ⑧

درصل اہل ایمان کی بات تو یہ ہے

جب وہ بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف

تک رسول فیصلہ کرے اُن کے مقدمات کا تو وہ کیسی، "ہم نے سُنا،

او اطاعت کی" اور یہی لوگ ہیں فلاج پانے والے ⑨

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ⑩

وَيَقُولُونَ أَمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ

وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّ فِرِيقٌ

مِنْهُمْ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا

أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ⑪

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرِيقٌ

مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ⑫

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحُقْقُ يَأْتُوا

إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ⑬

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

أَمْ إِرْأَتُهُمْ أَمْ يَخَافُونَ

أَنْ يَجْحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑭

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ

إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑮

اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اُس کے رسول کی
اور دُرِّا اللہ سے اور بچا اس دکی نافرمانی سے
سویں لوگ ہیں کامیاب ④

اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی، بڑی سخت قسمیں
کہ اگر تم حکم دو انہیں تو ضرور نکل کھڑے ہوں گے (پانچ گھنٹے سے)
کہو! قسمیں نہ کھاؤ، اصل چیز، دستور کے مطابق اطاعت ہے۔

بے شک اللہ پُوری طرح باخبر ہے تمہارے کروتوں سے ④
ان سے کہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کو رسول کی
پھر اگر تم منہ موڑو گے تو جان لو کہ رسول پر توزمرداری ہے صرف
اس فرض کی جو عائم کیا گیا ہے اس پر اور تم پر ذمہ داری ہے
اُس کی جو ڈالا گیا ہے تم پر اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول کی
توبہ ایت پا جاؤ گے اور نہیں ہے رسول پر ذمہ داری
مگر حکم پہنچا دینے کی کھول کھول کر ④

وعده فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے
تم میں سے اوس کے انہوں نے اچھے عمل
کرنے والے بنائے گا ان کو زمین میں

جس طرح ملکہ بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو
ان سے پہلے تھے اور ضرور قائم کر دے گا مصبوط بُنیادوں پر
اُن کے لیے اُن کے اس دین کو ہے پسند کر دیا ہے اللہ نے

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَنَجِّشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَارِزُونَ ④
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِنْ أَمْرَتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ
قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ④
قُلْ اِطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِّبِعُوا الرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ
مَا حُمِّلْتُمْ وَلَانْ تُطْبِعُوهُ
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ④
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يَكُنْنَ
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى

اُن کے لیے اور ضرور بدل دے گا اُن کی حالت خوف کو
امن سے۔ پس وہ میری عبادت کرتے رہیں اور نہ شریک بنائیں
میرے ساتھ کسی کو اور جو کفر کرے گا اس کے بعد
تو ایسے ہی لوگ فاسن میں ④

اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ
اور اطاعت کرو رسول کی امید ہے کہ حرم کیا جائے گا تم پر ⑤

اور نہ خیال کرو تم اُن کے ہاتھے میں جو کافر ہیں کہ
وہ عاجز کر دیں گے (اللہ کو) زمین میں اور اُن کا ملک کا
جهنم ہے جو بہت ہی بُرا ملک کا ہے ⑥

اسے لوگ جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ اجازت طب کریم سے
وہ جو تم سے ملکی میں میں ہیں اور وہ (پتھے) بھی جو
نہ پہنچے ہوں عقل و شعور کو تم میں سے، تین اوقات میں۔
نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اُتار دیتے ہو
اپنے پڑے دوپر کے وقت اور بعد
نمازِ عشا کے۔ یہ تین (ادقات) تمہاری بے پر دگی کے ہیں۔
نہیں ہے تم پر اور نہ اُن پر کوئی گناہ ان ادقات کے بعد۔
آتے جاتے رہتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس۔
اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے
اپنے احکامات اور اللہ علیم و حکیم ہے ⑦

لَهُمْ وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ قَمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
أَمْنَاءٌ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِنِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ⑧

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْوِ الزَّكُوٰةَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ⑨

لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مُجْرِمِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وُنِّهُمْ
النَّازُّ وَلِيَسَ الْمَصِيرُ ⑩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمْ
الَّذِينَ مَلَكُوتَ أَيْمَانِكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَجِبْرِ تَضَعُونَ
ثَيَّابَكُمْ مِنَ الطَّهِيرَةِ وَمَنْ بَعْدَ
صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
ظَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْأُبَيْتُ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ⑪

اور جب پہنچ چائیں تمہارے بچے سبق رشد کو
تلازم ہے کہ اجازت طلب کریں وہ بھی جیسے کہ
اجازت طلب کرتے ہیں وہ جو ان سے پہلے (بالغ ہوئے) ہیں۔
اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے
اپنے احکام اور اللہ علیم و حکیم ہے ④
اور خانہ نشین بُودھی عورتیں جن کو درہی ہو تو قع
نکاح کی کچھ نہیں اُن پر گناہ اس بات میں کہ
اُنہار کھیں اپنے کپڑے بشرطیکہ ذنم اُن ش کرنا چاہتی ہوں
(اپنی) ازینت کی تاہم وہ بھی حیادار ہیں تو زیادہ بہتر ہے
ان کے لیے۔ اور اللہ سميع علیم ہے ⑤
نہیں ہے انہے پر کوئی حرج اور نہ
نگرے پر کوئی حرج اور نہ بیمار پر
کوئی حرج اور نہ تمہارے اور پر اس بات میں کہ
کھاؤتم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے
یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے
یا اپنی بیٹوں کے گھروں سے یا اپنے چھاؤں کے گھروں سے
یا اپنی چھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماں موؤں کے گھروں سے
یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے
یا (ان گھروں سے) جن کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہوں

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ النَّذِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑥
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ
يَضْعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَهُنَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑦
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَالِ حَرَجٌ وَلَا
عَلَى الْأَعْدَاجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ
تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَبَاءِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ خَلْتِكُمْ
أَوْ مَا مَكَثْتُمْ مَفَاتِحَهُ

یا پس دستیں (کے گھروں) سے نہیں ہے تم پر
 کوئی گناہ اس میں کہ کھاؤ تم سب مل کر
 یا ملحدہ علمدہ - پھر جب داخل ہوتم گھروں میں
 تو سلام کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو دعائے خیر کے طور پر
 جو اللہ کی طرف سے ہے، بڑی بارکت
 اور پاکیزہ - اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے
 اللہ تھارے یہ اپنے احکام
 تاکہ تم سمجھو بوجھ سے کام لو ④
 مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں
 اللہ پر اور اس کے رسول پر
 اور جب ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے ساختہ
 کسی اجتماعی کام کے موقعہ پر تذمیں جاتے۔
 جب تک کہ اجازت نہ لے لیں رسول اللہ سے،
 بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں تم سے
 وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر
 اور اس کے رسول پر - پھر جب اجازت طلب کریں تم سے
 اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے دو جس کو
 چاہو ان میں سے اور دعاۓ مغفرت کرو ان کے لیے
 اللہ سے - بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ⑤

أَوْ صَدِيقِكُمْ لَبِسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا
 أَوْ أَشْتَاتَا مَهْرَبًا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
 فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحْيَةً
 مَنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً
 طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ
 كَعْدَكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
 عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
 حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
 لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاقْذِنْ لَمَنْ
 شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

مَتْ بِكِهِ بِشُو
 رسول کے بلانے کو اپنے درمیان
 اس طرح جیسے بلا تے ہوتم اپس میں ایک دوسرے کو۔
 بیشک خوب جانتا ہے اللہ
 ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں
 تم میں سے (ایک دوسرے) کی آڑ لیتے ہوئے۔
 سولازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو
 خلاف درزی کرتے ہیں رسول کے حکم کی
 اس بات سے کہیں نہ آپڑے اُن پر
 کوئی فتنہ یاد آئے اُنہیں
 دردنناک عذاب ④
 خبردار ہو بے شک اللہ ہی کا ہے
 جو کچھ ہے آسمانوں میں
 اور زمین میں۔ اور وہ خوب جانتا ہے
 اس (روش) کو جس پر تم ہو۔
 اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ
 اس کے حضور تو وہ اُنہیں بتا دے گا کہ
 وہ کیا کرتے رہے اور اللہ
 ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے ⑤

لَا تَجْعَلُوا
 دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
 كَدُّعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
 الَّذِينَ يَنْتَسِلُونَ
 مِنْكُمْ لِوَادِّا
 فَلَيَحْدُدَ الرَّذِينَ
 بِخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
 أَنْ تُصِيبَهُمْ
 فِتْنَةً أَوْ بِيُصِيبَهُمْ
 عَذَابَ أَلِيمٍ ⑥
 أَلَا إِنَّ اللَّهَ
 مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ
 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ⑦
 وَبِيَوْمِ بُرْجَعُونَ
 إِلَيْهِ فَيُنَتَّهُمْ
 بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑧

﴿۲۵﴾ سُورَةُ الْفُرْقَانِ مِكَيْرَةٌ (۳۲) إِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بلاہریان نہایت رحم کرنے والا ہے

بہت بارکت ہے وہ جس نے نازل فرمایا

الفرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو وہ

پوئے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ①

وہی جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا

اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اپنا بیٹا اور ہر گز نہیں ہے

اس کا کوئی شریک بادشاہی میں اور پیدا فرمایا اس نے

ہر چیز کو پھر مقرر کر دی اس کی ایک قدر ②

اور بنایے ہیں ان لوگوں نے اس کے علاوہ ایسے معبود جو

نہیں پیدا کرتے کوئی چیز بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں

اور جو نہیں اختیار کرتے خدا اپنے لیے بھی نقصان کا

اور نہ نفع کا اور نہ اختیار کرتے ہیں مارنے کا ③

اور نہ زندہ کرنے کا اور نہ دوبارہ اٹھانے کا

اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کرنہیں ہے یہ (فرقان)

مگر ایک من گھڑت چیز ہے گھڑیا ہے اس نے خود ہی

اور مدد کی ہے اس کی اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے

﴿۱﴾ تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ

الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِنَعْلَمِ الَّذِينَ نَذَرُوا ①

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَلَمْ يَتَحَدُّ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ②

وَاتَّخَذَ وَالَّذِينَ دُونَهُ إِلَهَةً

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

وَلَا يَمْلِكُونَ لَا نَفْسٍ هُمْ ضَرَّا

وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

وَلَا حَيَاةً وَلَا يَنْشُرُوا ③

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

إِلَّا إِفْلَكٌ افْتَرَاهُ

وَأَعْنَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُونَ ۚ

درحقیقت اُترائے میں یہ لوگ خلم اور جھوٹ پر ③
اوکتے ہیں کہ یہ کمانیاں ہیں پہلے لوگوں کی
جنہیں نقل کرایتا ہے یہ بھرپور منائی جاتی ہیں اسے

صبح وشام

کہ دو! نازل کیا ہے اس کو اس نے جو جانتا ہے
راز آسمانوں کے اور زمین کے۔ بے شک وہ ہے
بڑا معاف فرمائے والا اور رحم فرمائے والا ⑤
اور وہ کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول کو کھاتا ہے
کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔

کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ
جو رہتا اس کے ساتھ ڈالنے کے لیے ⑦^۷
یا اٹارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ یا ہوتا اس کے پاس
کوئی باغ کرکھاتا اس میں سے (چل)۔

او کتے میں یہ ظالم کرنے نہیں کر سکتے تم پیر دی
مگر ایک لیے شخص کی جو سر زدہ ہے ⑧

فدا دیکھو! کیسی کیسی چپاں کر رہے ہیں یہ تم پر
مثالیں سوایے بہک گئے ہیں یہ

کہیں پتے اب کوئی راستہ ①
بڑا بارکت ہے وہ جو اگر پل ہے تو عطا کر سکتا ہے

فَقَدْ جَاءُ وَظُلْمًا وَزُورًا ۚ
وَقَالُوا أَسَا طِيرُ الْأَوْلَىٰ
اَكُتْتَبْهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ
بِكُرَّةً وَآصِيلًا ۚ

قُلْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ

السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ كَانَ

غَفُورًا رَّجِيًّا

وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يُكُلُّ

الطعام ويشتري في الـ

لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

أَوْلُقَمُ اللَّهُ كَنْزٌ

حَنَّةُ سَائِعٍ صَفَّا

وَقَالَ الظَّلْمَةُ إِنِّي

الْأَنْجَلَيْنَ

انظہر کے نفیض

الأمم شالاً فَضَلَّتْ

فَلَمْ يَرْجِعُوهُ إِلَيْهِمْ

سَرَكَ الَّذِيْ اَنْ شَاءَ حَعَلَ

تمیں بہتر اس سے (جو یہ کتے ہیں) ایسے باغات
کہ بہتی ہوں ان کے نیچے نہ رہیں،
اور بنادے تمہارے لیے محلات ⑩
اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہیں یہ قیامت کو۔
اور تیار کر کریں ہم نے اس کے لیے جو جھٹلاتے
قیامت کو، دوزخ ⑪

جب دیکھے گی وہ انہیں دور سے
تو ہمیں گے یہ اُس کا غیظ و غضب اور پُر جوش آواز ⑫
اور جب یہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ مگر میں
ٹکیں باندھ کر تو مانگنے لگیں گے وہ اس وقت موت ⑬
(کہا جائے گا) موت مانگو آج صرف ایک موت کو
بلکہ مانگو بہت سی موتیں ⑭

ان سے پوچھو کیا یہ الجام بہتر ہے یا وہ ابتدی جنت؟
جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیز گاروں سے جو ہوگی
ان کی جسنا بھی اور آخری تحکما نا بھی ⑮

ان کو دہاں ہر دہ چیز میں گی جو وہ چاہیں گے
اور ہمیشہ ہیں گے۔ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے
ایسا وعدہ جو واجب الادا ہے ⑯
اور جس دن گھیر گھار کر لائے گا انہیں اللہ اور ان کو بھی جن کی

لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ۚ
وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ⑰
بَلْ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ
وَأَغْنَدُنَا لِمَنْ كَذَبَ
بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑱

إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ
سَمِعُوا لَهَا تَغْيِطًا وَرَفِيرًا ⑲

وَإِذَا أُقْتُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مُفَرَّزِينَ دَعْوَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑳

لَا تَدْعُوا إِلَيْهِمْ شُبُورًا وَاحِدًا
وَادْعُوا شُبُورًا كَثِيرًا ㉑

قُلْ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلُدِ
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ㉒

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ
وَعْدًا مَسْوُلًا ㉓

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْنَا

عِبَادِيْ هَوْلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلَّوْا

السَّبِيلَ ⑯

یے عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا
بھراؤ سے پوچھے گا کیا تم نے گراہ کیا تھا؟
یہ رے ان بندوں کو یا یہ خود ہی بھڑک گئے تھے

راہ راست سے ⑯

وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، نہ تھا یہ مناسب
ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی کو
اپنا مول، لیکن خوب فائدے پہنچائے اُنہیں تو نے
اور ان کے باپ دادا کو حتیٰ کہ وہ غافل ہو گئے تیری یاد سے
اور ہو کر رہ گئے شامت زده ⑯

سو جھٹلا دیں گے وہ تم کو تمہاری ان باتوں کے باسے میں جو
تم کہ رہے ہو اور نہیں طاقت رکھو گے تم (اپنی شامت کو مٹانے کی
اور نہ مدد (پاٹ گے) اور جس نے بھی خلم کیا ہے تم میں سے
چکھائیں گے ہم اسے مزہ بہت بڑے عذاب کا ⑯
اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پسلے کوئی رسول
مگر وہ سب کھاتے تھے کھانا
اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں۔

اور بنایا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے
آزمائش کر کیا تم ثابت قدم رہتے ہو؟
اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے ⑯

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي

لَنَا أَنْ تَتَخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ

أَوْلَيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ

وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ

وَكَانُوا قَوْمًا بُؤْرًا ⑯

فَقَدْ كَذَّ بُوكُمْ بِمَا

تَقُولُونَ، فَمَا تَسْتَطِيُونَ صَرْفًا

وَلَا نَصْرًا، وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ

نُذْقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ⑯

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الظَّعَامَ

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ

فِتْنَةً، أَتَصْبِرُونَ

وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ⑯